



أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortation”(16:126)

Tilawat-e-Qur'an (10-12)

Any ONE Surah from:

Surah Al-Baqarah

(Chapter 2,verse 129-130)

Translation:

129. And remember the time when Abraham and Ishmael raised the foundations of the House, praying, ‘Our Lord, accept this from us; for Thou art All-Hearing, All-Knowing.

‘130. Our Lord, make us submissive to Thee and make of our offspring a people submissive to Thee. And show us our ways of worship, and turn to us with mercy; for Thou art Oft-Returning with compassion and Merciful.

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٩﴾ رَبَّنَا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٠﴾

Surah An-Nahl

(Chapter 16,verse 126-127)

Translation:

126. Call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortation, and argue with them in a way that is best. Surely, thy Lord knows best who has strayed from His way; and He knows those who are rightly guided.

127. And if you desire to punish the oppressors, then punish them to the extent to which you have been wronged; but if you show patience, then, surely, that is best for those who are patient.

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِ
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٦﴾
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
وَلَعِنَ صَبْرَتُهُمْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٧﴾

Nasirat Ijtema Syllabus 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortation”(16:126)

Tilawat-e-Qur'an (10-12)

Any ONE Surah from:

Surah Al-Maun

(Chapter 107, verse 129-130)

Translation:

2. Hast thou seen him who rejects religion?
3. That is the one who drives away the orphan,
4. And urges not the feeding of the poor.
5. So woe to those who pray,
6. But are unmindful of their Prayer.
7. They like to be seen of men,
8. And withhold legal alms.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ
فَإِذَا دُعِيَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ
فَأَعْرَضَ عَنْهُ
فَأُخْرِجْهُ إِلَى الْيَتِيمِ
وَلَا يَحِضْ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ
فَوَيْلٌ لِلْبُصَلِّينَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ يُرْآءُونَ
وَيَسْتَعُونَ الْبَاعُونَ

English & Urdu Speech Competitions (10-12)

- Prophecies of the Advent of the Promised Messiah (as) حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی پیش گوئیاں
- “I solemnly promise that I shall always keep myself ready to serve my faith, my nation and my country.” ”میں پختہ عہد کرتی ہوں کہ میں اپنے ایمان، اپنی قوم اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھوں گی۔“
- Silent Tabligh with my friends اپنے دوستوں کے ساتھ خاموش تبلیغ
- How to be a wise and confident Dai'ilallah [caller to Allah] عقلمند اور پر اعتماد داعی اللہ (اللہ کی طرف بلانے والا) کیسے بنیں

Qanitaat (10-12)

Nasirat Ijtema Syllabus 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortation”(16:126)

Hifz-e-Nazm Competition (10-12)

Any ONE Nazm from:

Khuda se wohi log kertay hain pyar
Jo sub kuch hi kertay hain uss per nisar
Issi fikr mein rehtay hain rozo shub
Kay raazi woh dildaar hoota hai kab?
Ussay day chukay maal o jaan bar bar
Abhi Khauf dil mein ke hain naabkaar
(Durre-sameen)

خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار
جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار
اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب
کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب؟
اسے دے چکے مال و جان بار بار
ابھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار
(در ثمنین)

Ho fazl tera ya Rub ya koi ibtala ho
Raazi hain hum ussi mein Jis mein
teri raza ho

ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو
راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو

Mit jaa'oon mein to iskee Parwah
nahi hai kuch bhi
Meri fana say haasil Gar deen ko
baqaa ho

مٹ جاؤں میں تو اسکی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی
میری فنا سے حاصل گردین کو بقا ہو

Seenay mein josh e ghairat Aur aankh
mein haya ho
Lub per ho zikr tera Dil mein teri
wafa ho
(Kalame Mahmood)

سینہ میں جوشِ غیرت اور آنکھ میں حیا ہو
لب پر ہو ذکر تیرا دل میں تیری وفا ہو
(حضرت مصلح موعودؑ)

Qanītaat (10-12)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortation”(16:126)

Hifz-e-Nazm Competition (10-12)

Any ONE Nazm from:

Emaan mujh ko day day Irfaan
mujh ko day day
Qurbaan jaon teray Qur'an mujh ko
day day

ایمان مجھ کو دے دے عرفان مجھ کو دے دے
قربان جاؤں تیرے قرآن مجھ کو دے دے

Dil paak ker day mera duniya ki
chaahaton say
Subboohiat say hissa subhan mujh
ko day day

دل پاک کر دے میرا دنیا کی چاہتوں سے
سُبُوْحِیَّت سے حصہ سبحان مجھ کو دے دے

Dil jal raha hai mera furqat say teri
har dum
Jaam e visaal apna ay Jaan mujh
ko day day

دل جل رہا ہے میرا فرقت سے تیری ہر دم
جام وصال اپنا اے جان مجھ کو دے دے

(Kalam e Mahmood)

(کلام محمود)

Hazrat e Sayyad e wulday Aadam
Sallaliaho alayhay wasalam
Sub nabiyon mein afzalo akram
Sallaliaho alayhay wasalam
Naam Muhammad (sa) Kaam Mukkaram
Sallallahho alayhay wasalam
(Kalam e Tahir)

حضرت سید ولد آدم
صلی اللہ علیہ وسلم
سب نبیوں میں افضل و اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم
نام محمد کام مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم

(کلام طاہر)

Nasirat Ijtema Syllabus 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



أَدْعُرْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“Call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortation”(16:126)

Hifz e Nazm Competitions (10-12)

Any ONE Nazm from:

Ya ‘aina faizil laahi wal Irfaani

Yas ‘aa ilaikal Khalku ka-zam-aani

يَا عَيْنَ فَايِزِ اللَّهُ وَالْعِرْفَانَ
يَسْعَى إِلَيْكَ الْخَلْقُ كَالظَّمَانِ

Ya rabbi salli ‘alaa nabiiyika daai-man

Fee haazihid dunya waba’ sin saani

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ دَائِمًا
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَبَعَثْ ثَانِ

Ya Hibbi innaka kad-dakhalta mahabbatan

Fee muhjatee wamadaariki wajanani

يَا حِبِّ إِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ مَحَبَّةً
فِي مُهْجَتِي وَمَدَارِكِي وَجَنَانِي

(Qaseeda Hazrat Masih Maud as)

(قصيده حضرت مسیح موعود)

Hifz-e-Qur’an (10-12)

- Surah Al-Baqarah Chapter 2:256 (Ayatul Kursi).
- Prayer of Prophet Musa (as): Surah Ta'ha (Chapter 20:26-30) with translation
- Part 30: Surah Al-Qariah (Chapter 101), Surah Al-Humazah (Chapter 104), Surah Al-Kafirun (Chapter 109).

Qanitaat (10-12)